



سوال

(25) ایک خاص قسم کا تعویذ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایسے تعویذ کا حکم جس میں لکھا ہے ”یا بدوح مرطوس کبیج صھوبشا نوش المعطی لمیق علیق بزحم یا جمیع طلفا برطالما محبط باسا۔ کیا دفع آفات کے لیے اس قسم کا تعویذ لکھنا جائز ہے؟۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تعویذ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آپ نے جو کلمات ذکر کیے ہیں جن کا معنی نہیں اس جیسا تعویذ با اتفاق علماء حرام ہیں۔ اختلاف تو اس تعویذ میں ہے جس میں قرآن و سنت لکھا ہو زیادہ صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ بھی مکروہ ہے کیونکہ اس میں فساد کا بھی امکان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ اس کی کچھ تفصیل ہم نے مسئلہ نمبر 9 میں ذکر کی ہے ملاحظہ کریں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ الدین الخالص

ج 1 ص 88

محدث فتویٰ